

## زندہ اعضاء کے عطیہ میں ہیومن ٹشو اتھارٹی (Human Tissue Authority) کا کردار

انسانی نسیج کا قانون 2004 (Human Tissue Act 2004) (HT قانون) انگلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں اعضاء کے عطیہ کے لئے ایک قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں یہ ڈھانچہ انسانی نسیج (اسکاٹ لینڈ) قانون (Human Tissue Act (Scotland)) 2006 فراہم کرتا ہے۔

ہیومن ٹشو اتھارٹی (Human Tissue Authority) (HTA) قانون کے بارے میں مشورہ اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے ذریعہ مقرر کردہ اصولوں کی بنیاد پر اس بابت فیصلہ کر کے کہ آیا ہر ایک کیس میں پیش رفت ممکن ہے یا نہیں برطانیہ میں زندہ لوگوں سے اعضاء کے عطیہ کو منضبط کرتے ہیں۔

ہماری صلاح ہے کہ آپ اپنی پیوند کاری یونٹ کے ذریعہ فراہم کردہ دیگر معلومات کے ساتھ ساتھ اس کتابچہ کا بھی مطالعہ کریں۔ اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ اس میں زندہ عطیہ کنندہ اور عضو کے وصول کنندہ دونوں کے لئے کیا کچھ شامل ہے۔

### خود مختار جائزہ کار کا انٹرویو

تمام عطیہ کنندگان اور اعضاء کے وصول کنندگان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک خود مختار جائزہ کار (Independent Assessor (IA)) سے ملاقات کریں جو کہ HTA کے ذریعہ تربیت یافتہ اور سند یافتہ ہوتا ہے۔ IA ہماری جانب سے عطیہ کنندہ اور وصول کنندہ دونوں سے الگ الگ اور پھر بیک وقت ملاقات کرتا ہے، اور وہ نگہداشت صحت کی ان ٹیموں سے الگ ہوتا ہے جو کہ طبی کارروائیوں کے حصوں میں شامل ہوتی ہیں۔

ان ملاقاتوں کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عطیہ کنندگان کو ان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے

کے لئے مجبور نہ کیا جاتا ہو، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کسی معاوضہ کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو نہ ہی اس کی پیشکش کی گئی ہو، نیز اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ عطیہ کنندہ ایک باخبر فیصلہ لینے کے لئے اہل ہے۔

پیچیدگی پر انحصار کرتے ہوئے، بیشتر ملاقاتوں میں 30 منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ تک کا وقت لگتا ہے۔ عطیہ کنندگان اور وصول کنندگان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی شناختی دستاویز اور اپنی رشتہ داری کا ثبوت لے کر آئیں۔

اگر HTA قانون کی شرطیں پوری نہیں کی جاتی ہیں تو دو زندہ لوگوں کے درمیان کسی پیوند کاری آپریشن کو انجام دینا ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درست رضامندی لازماً دی جانی چاہئے۔ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت میں ملوث ہونا بھی ایک جرم ہے۔ ان جرائم کی سزا تین ماہ کی جیل، کوئی جرمانہ یا دونوں عائد ہو سکتے ہیں۔ تمام عطیہ کنندگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک دستخط شدہ اقرار نامہ فراہم کریں جس سے اس بات کی تصدیق ہو تیبو کہ اعضاء کے عطیہ اور پیوند کاری کے ساتھ معاوضہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔



**HTA**  
Human Tissue Authority



ہیومن ٹشو اتھارٹی (Human Tissue Authority)

زندہ اعضاء کے عطیہ میں  
ہمارا کردار

## آزادانہ جائزے کی کارروائی

HTA کی ملاقاتیں تب انجام پائیں گی جبکہ میڈیکل پریکٹیشنر نے عطیہ کنندہ کو طبی اور تشخیصی طور پر عطیہ کرنے کے قابل قرار دیا ہو۔

زندہ عطیہ کنندہ گان کا رابطہ کار (Living Donor Coordinator (LDC)) ملاقات کو ایسے وقت میں مقرر کرے گا جو کہ عطیہ کنندہ، وصول کنندہ اور IA کے لئے مناسب ہو۔ LDS کسی مترجم یا ضرورت ہونے کی صورت میں دیگر خصوصی ضرورتوں کا بھی بندوبست کرے گا۔

انٹرویو کے بعد IA کے پاس HTA کو انٹرویو کی رپورٹ جمع کرانے کے لئے کام کاج کے 10 دن ہوں گے۔ HTA کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام کیسیز سے متعلق فیصلہ

کرے جو اسے پیوند کاری کی یونٹ کے ذریعہ ریفر کئے جاتے ہیں۔ بعض کیسیز کا جائزہ HTA اسٹاف کا کوئی ممبر لے سکتا ہے، جبکہ دیگر کیسیز کا جائزہ بورڈ کے تین ممبران پر مشتمل ایک پینل لیتا ہے۔ HTA کا ہدف ریفر کئے جانے کے بعد سے بغیر پینل والے تمام کیسیز کا جائزہ کام کاج کے پانچ دنوں میں مکمل کرنے کا ہے اور پینل والے تمام کیسیز کا 10 کام کاجی دنوں کے اندر۔ وقت تب شروع ہوتا جب کہ HTA کے پاس کیسیز کا جائزہ لینے کے لئے تمام ضروری معلومات حاصل ہو جائیں۔

ہر ایک کیسیز پر فیصلہ کرنے کے بعد، LDC اور عطیہ کنندہ کے لئے ذمہ دار میڈیکل پریکٹیشنر کو مطلع کر دیا جائے گا۔ LDC فیصلہ کی اطلاع HTA کی طرف سے عطیہ کنندہ اور وصول کنندہ دونوں کو کر دیتا ہے۔

### رابطہ

یہ کتابچہ صرف رہنمائی کے لئے ہے۔ مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی مندرجہ ذیل سے رابطہ کریں:

020 7269 1900

enquiries@hta.gov.uk

www.hta.gov.uk

@HTA\_UK

/HumanTissueAuthority

Human Tissue Authority  
151 Buckingham Palace  
Road London  
SW1W 9SZ

یہ کتابچہ ہماری ویب سائٹ پر عربی، بنگالی، یونانی، گجراتی، ہندی، پولش، پنجابی، اردو اور ویلش میں دستیاب ہے۔

مطبوعہ جولائی 2014

کاپی رائٹ: Human Tissue Authority

